



## مردوں میں سے بہت سے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران ہی مرتبہ کمال تک پہنچیں اور عائشہ کو عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے، جو فضیلت ثرید کو سارے کھانوں پر حاصل ہے

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مردوں میں سے بہت سے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران ہی مرتبہ کمال تک پہنچیں اور عائشہ کو عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے، جو فضیلت ثرید کو سارے کھانوں پر حاصل ہے" [صحیح] [متفق علیہ]

ایسے مرد جو دینی اور اخلاقی فضیلتوں میں مرتبہ کمال کو پہنچے، بہت سے لوگ تو عام مرتبہ کمال کو پہنچے، جیسے علما، صالحین اور اولیاء جب کہ کچھ لوگ کمال کے سب سے اونچے مرتبہ پر فائز ہوئے، جیسے انبیاء کرام لیکن اس کے بالمقابل ایسی عورتیں جو مرتبہ کمال کو پہنچیں، بہت کم ہیں جن میں سر فہرست دو عورتیں ہیں: ایک فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، جن کے کامل ایمان کی مثال اللہ نے دی ہے ارشاد ہے: {وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتٍ فِرْعَوْنَ} (اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے) دراصل جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں پر غالب آئے، تو وہ ان پر ایمان لائے اور جب فرعون کو ان کے ایمان کی خبر ہوئی، تو اس نے ان کو اتنی اذیتیں دیں کہ وہ دنیا سے سدھار گئے لیکن ہاں! ایمان کی دولت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جب کہ دوسری عورت مریم بنت عمران ہیں، جن کی پاک بازی اور کمال عبادت کی اللہ نے مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا: "عائشہ کو عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے، جو فضیلت ثرید کو سارے کھانوں پر حاصل ہے" ثرید جو روٹی اور گوشت سے بنتا ہے، عربوں کا سب سے پسندیدہ پکوان ہے اور تمام عورتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی اسی طرح ہے، جیسے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ کھانے ثرید کو تمام کھانوں کی فضیلت حاصل ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/11179>